



# EFU SINGLE PREMIUM PLAN

PLAN THAT GIVES YOU GUARANTEED  
AND ATTRACTIVE RETURNS

# EFU Single Premium Plan

EFU Single Premium Plan is a one-time investment and insurance plan where you pay the premium just once and enjoy the dual benefits of life insurance and investment. This is an ideal plan to maximize the potential of a lump sum cash amount, rather than letting it depreciate with time. This plan gives you the potential to earn higher attractive returns.



## Opportunity for Growth:

Every premium paid towards the plan will be invested in one or two of the internal investment funds of EFU Life. It is completely your decision to choose the internal fund based on your investment objectives.

You can select from the following unit funds mentioned below:

**EFU Managed Growth Fund** An investment fund with a balanced investment strategy. It aims to achieve reasonable capital growth and steady returns with investment in government securities, carefully selected blue chip equities and other fixed income instruments and cash.

**EFU Guaranteed Growth Fund\*** An investment fund providing steady returns with a guarantee that the bid price of the fund will never fall. It aims to achieve stable growth through investment in short term debt securities.

**EFU Aggressive Fund** An investment fund with the aim of investing in equities providing a higher rate of return. It aims to maximise capital growth by using investments with an aggressive market outlook.

**Multiple Funds Option:** Under this option you have a facility to select a mix of two unit linked funds of the plan. Fund mix can be selected in the multiple of 10%. It means that the funds split can be of 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 or 50/50.

**\*EFU Guaranteed Growth Fund to be selected by default**

## Free Look Period:

If you cancel your policy within free look period of 14 days from the date of the documents receipt, you are entitled for a full refund of premium less any expenses incurred by EFU Life in connection with our medical or clinical examinations.

## Benefits:

### Death Benefit:

For Ages 18 – 65 years:

- The Basic Sum Assured (adjusted for partial surrenders), or Basic Cash Value of the plan.

Plus

- The Cash Value of the units applicable to FAP (if any)

For Ages 66 and above at entry:

Death Benefit up to 5 policy year is equal to:

- The Basic Sum Assured (adjusted for partial surrenders), or Basic Cash Value of the plan.

plus

- The Cash Value of the units applicable to FAP (if any)

Death benefit after 5 policy years will be Total Cash Value.

### Sum Assured:

This is the guaranteed amount payable on death. For ages 18 to 65 years at entry, the Sum Assured can range from 1.25 times to 2 times of the Original Single Premium. For ages 66 to 75 years, the Sum Assured will be 1.25 of the Original Single Premium.

### Built-in Accidental Death Benefit:

In case of accidental death of the life assured before age 60, an additional lump sum benefit will be paid. The amount of payout is equal to Original Single Premium adjusted for partial withdrawals. This benefit amount will be in addition to the Death Benefit.

### Loyalty Bonus:

Loyalty Bonus is offered to customers for their long-standing relationship. These bonus units are allocated every 5 years, starting from the end of 5th policy year. The loyalty bonus unit allocation, in addition to the basic plan premium is as follows:

End of Policy Year	Loyalty Bonus Allocation as % of Single Premium
5	2%
10	3%
15 and every 5 years thereafter	4%

### Unit Allocation:

Premiums are allocated to purchase the units of EFU Life Funds in the following percentages:

- 100% of the Original Single Premium is allocated to purchase units in selected fund.
- 100% of the Fund Acceleration Premium is allocated to purchase units in the selected fund.

### Fund Acceleration Premium:

If you have surplus cash available at any point of time during the plan term it can be invested in the plan to enhance your cash values. These additional payments in the plan are called Fund Acceleration Premium payments. You can make these payments at any time while the policy is in force. The minimum FAP payment is Rs. 50,000.

100% of FAP payments are allocated to purchase units in the selected fund.

### Complete and Partial Surrender:

The plan always provides complete access to accumulated fund value. Total units accumulated can be withdrawn after the second year's regular premium payment. A facility for partial withdrawals is also

available subject to Rs.20,000 remaining in the fund. If the customer opts for complete surrender, all units will be encashed and the plan will be terminated.

### **Claim:**

In case of an unfortunate event, you may file your claim intimation through a Samba Bank Branch walk in, visiting the EFU Head Office or by visiting any of the EFU branches in the country. For a swift speedy process you may also call us at our call center (021- 111-338-111) or simply visit our website, fill in the intimation form and email it to us at [cod@efulife.com](mailto:cod@efulife.com). Thereafter, you will be contacted for next steps.

### **FAQs**

#### **What is the Applicable age and tenure?**

This plan is available for all individuals aged between 18, it is a whole of life plan.

#### **What the minimum Premium requirements?**

Minimum annual basic plan premium is Rs. 50,000/- only.

#### **What are the charges?**

Investment Management Charges: 0.125% of the fund value per month

Bid / Offer Spread: 5% of the regular premium.

### **Disclaimer:**

- This product is underwritten by EFU Life Assurance Ltd. It is not guaranteed or insured by Samba Bank or its affiliates and is not a Samba Bank product. Hence EFU life is responsible for all underwriting risk.
- Samba Bank is just a promoter and corporate insurance agent of this product to its valued customers.
- All Insurance Indemnity Claims, charges and payments relating to the Insurance Policies shall be the sole and exclusive responsibility of EFU Life.
- The premium in the plan are invested in any one of the mentioned growth funds as chosen by the policyholder.
- The past performance of fund is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither EFU Life Assurance Ltd nor Samba Bank will incur any liability for the same.
- A personalized illustration of benefits will be provided to you by the sales representative. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various Terms and Conditions.
- Service charges and taxes will be applicable as per the bank's "Schedule of Charges" and taxation laws as stipulated by the relevant authorities.
- A description of how the contract works is given in the policy provisions and conditions. This product brochure only gives a general outline of the product features and benefits and the figures used above are indicative and for illustration purposes only.

# EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan  
Fax: (021) 3453-7519 Email: [csd@efulife.com](mailto:csd@efulife.com)



# ای ایف یو سنگل پریمیم پلان

ایک ایسا پلان جو فراہم کرے یقینی اور پرکشش ریٹرنز

# ای ایف یو سنگل پر بیمہ پلان



ای ایف یو سنگل پر بیمہ پلان ایک باریک سرائی کار اور بیمہ پلان ہے جہاں آپ ایک بار پر بیمہ ادا کریں اور زندگی بیمہ کے سرمایہ کاری کے دونوں اہلکار لطف اٹھائیں۔ یہ ایک مثالی پلان ہے جو رقم میں یقینی طور پر اضافہ کرے بجائے اسکے کہ وہ وقت کے ساتھ اپنی قدر رکھو دے۔ یہ پلان آپ کو پرکشش ریٹرنز فراہم کرتا ہے

**نشوونما کے لئے مواقع:** اس پلان میں ادا کیا جانے والا ہر پر بیمہ ای ایف یو لائف کے منتخب کردہ کسی ایک یا دو سرمایہ کاری فنڈز میں لگایا جائے گا۔ یہ مکمل طور پر آپ کا فیصلہ ہوگا کہ اپنے سرمایہ کاری کے مقاصد کی بنیاد پر فنڈ کا انتخاب کریں۔ آپ درج ذیل یونٹ سے منسلک فنڈز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں:

**ای ایف یو میجنڈ گروتھ فنڈ:** ایک متوازن سرمایہ کاری کی حکمت عملی پر مشتمل سرمایہ کاری فنڈ۔ اس کا مقصد سرمایہ کاری سیکورٹیز، مختلط طور پر منتخب کی گئی بلوچپ ایکویٹیز اور دیگر مقررہ آمدنی کے ذرائع اور نقد سرمایہ کاری کے ذریعے، سرمائے کی مناسب نشوونما و مستحکم منافع جات حاصل کرنا ہے۔

**ای ایف یو گارنٹیڈ گروتھ فنڈ:** مستحکم منافع جات فراہم کرنے والا سرمایہ کاری فنڈ اس ضمانت کے ساتھ کہ فنڈ کی بولی قیمت (بڈ پرائس) کبھی نیچے نہیں آئے گی۔ اس کا مقصد قلیل المدت ڈیٹ سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کے ذریعے مستحکم نشوونما حاصل کرنا ہے۔

**ای ایف یو ایگریسو فنڈ:** ایک سرمایہ کاری فنڈ جس کا مقصد ایکویٹیز میں سرمایہ کاری کر کے تیزی سے آمدنی حاصل کرنا ہے۔ اس کا مقصد سرمایہ کاری کے ساتھ مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمائے کی نشوونما کو بڑھانا ہے۔

**متحدہ فنڈز کی سہولت (ملٹیل فنڈز آپشن):** اس اختیار کے تحت، آپ پلان کے یونٹ سے منسلک دو فنڈز کے مرکب کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ فنڈز کو 10 فیصد کے ملٹیل کے تحت منتخب کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فنڈز کو 10/20، 30/70، 40/60 یا 50/50 میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔  
ای ایف یو گارنٹیڈ گروتھ فنڈ خود کار طور پر منتخب کیا جائے گا

**غور و فکر کا دورانیہ (فری لک پریڈ):** اگر آپ دستاویزات کی وصولی کے 14 دن کے غور و فکر کا دورانیہ کے اندر اپنی رکنیت منسوخ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ای ایف یو لائف کے طبی/کلیمیکل معائنہ جات کے سلسلے میں اٹھنے والے اخراجات منہا کر کے پر بیمہ کی مکمل ادائیگی کی واپسی کا اہل ہوں گے۔

18 سے 65 سال کی عمر تک کے افراد کیلئے:

زیر بیمہ (جزوی رقم نکالنے کی صورت میں زیر بیمہ اس کے مطابق مقرر کیا جائے گا)، یا بنیادی پلان کی نقد مالیت (کیش ویلیو) میں سے جو بھی زیادہ ہو

اضافی اختیاری پریمیم (فنڈ ایکسٹریشن پریمیم) کے نوٹس کی نقد مالیت (کیش ویلیو) (اگر کوئی ہوں) اندراج کے وقت 66 سال سے زائد عمر کے افراد کیلئے:

پہلے 5 پالیسی سال تک وفات کی صورت میں ملنے والا فائدہ حسب ذیل ہوگا:

بنیادی زیر بیمہ (جزوی رقم نکالنے کی صورت میں زیر بیمہ اس کے مطابق مقرر کیا جائے گا)، یا بنیادی پلان کی نقد مالیت (کیش ویلیو) میں سے جو بھی زیادہ ہو

اضافی اختیاری پریمیم (فنڈ ایکسٹریشن پریمیم) کے نوٹس کی نقد مالیت (کیش ویلیو) (اگر کوئی ہوں) پالیسی کے 5 سال کے بعد وفات کی صورت میں ملنے والا فائدہ مجموعی نقد مالیت (کیش ویلیو) کے برابر ہوگا۔

### زیر بیمہ

وفات کی صورت میں یہ ایک ضمانت شدہ قابل ادائیگی رقم ہے۔ اندراج کے وقت 18 سے 65 کی عمروں کے لئے ہم ایشورڈ (زیر بیمہ) اصل سنگل پریمیم کا 1.25 سے لے کر 2 گنا تک ہو سکتا ہے۔ 66 سے 75 سال کی عمروں کے لئے زیر بیمہ اصل سنگل پریمیم کا 1.25 ہوگا۔

### پلٹ ان (خود کار) ایکسیڈنٹل ڈیٹھ مینٹ:

60 سال کی عمر سے پہلے اگر (بیمہ دار) پالیسی ہولڈر کی حادثاتی وفات واقع ہو جائے تو ایک یکمشت اضافی رقم ادا کی جائے گی۔ یہ رقم بنیادی سنگل پریمیم کے برابر ہوگی (جس میں جزوی طور پر واپس لی گئی رقم کو ترتیب (ایڈجسٹ) کیا جائے گا)۔ یہ مینٹ اوپر دئے گئے وفات کی صورت میں ملنے والے فائدے کے علاوہ ہے۔



## خیر خواہی بونس (لائسنسی بونس):

اس پلان کو جتنے زیادہ عرصے کے لئے جاری رکھا جائے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ پلان آپ کو فراہم کرتا ہے قابل ذکر لائسنسی بونس اضافی یونٹس کی شکل میں۔ اگر اس پلان کو شروع کرنے کے پانچ سال کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق جاری رکھا جائے تو ہر 5 سال پر صارف کو یہ بونس فراہم کیا جائے گا۔ بنیادی پریمیم میں پلان کے علاوہ خیر خواہی بونس درج ذیل ہے۔

پالیسی سال	مختص کردہ خیر خواہی بونس (%)
5	2 فیصد
10	3 فیصد
15 اور ہر 5 سال کے بعد	4 فیصد

## یونٹ ایلو کیشن

پری میئر ای ایف یو لائف فنڈز کے یونٹس کی خریداری کے لئے درج ذیل فیصد کے اعتبار سے مختص کئے جاتے ہیں:

سنگل پریمیم 100 فیصد (چار جز کوٹنی کے بعد) منتخب کئے گئے فنڈ کے یونٹس کو خریدنے میں استعمال ہوگا

یونٹس کی اکائیوں کے لئے اضافی اختیاری پریمیم یونٹ ایلو کیشن کا تناسب 100% ہوگا

## اضافی اختیاری پریمیم (فنڈ ایکسکلیژیشن پریمیم):

اگر آپ کے پاس پلان کی مدت کے دوران کسی بھی وقت اضافی نقد رقم موجود ہو تو اپنی نقد مالیت کیش ویلیو) کو بڑھانے کے لئے آپ اس کو پلان میں سرمایہ کاری کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان اضافی ادائیگیوں کو اضافی اختیاری پریمیم کہتے ہیں۔ آپ یہ ادائیگیاں پالیسی کے نافذ العمل ہوتے ہوئے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کم از کم اضافی اختیاری پریمیم 50,000 روپے فی ادائیگی ہے۔

اضافی اختیاری پریمیم میں ادائیگیوں کا 100 فیصد منتخب شدہ فنڈ میں یونٹس کی خریداری کے لئے مختص کیا جاتا ہے۔

## مکمل اور جزوی دستبرداری:

یہ پلان کسی بھی وقت، اس کی مدت کے دوران مجموعی نقد مالیت (کیش ویلیو تک مکمل رسائی فراہم کرتا ہے۔ پلان میں جمع شدہ تمام یونٹس دوسرے سال کے باقاعدہ پریمیم کی ادائیگی کے بعد نکلوائے جاسکتے ہیں۔ جزوی دستبرداری کی سہولت بھی موجود ہے بشرطیکہ فنڈ میں 20,000 کی نقد مالیت موجود رہے۔ اگر بیمہ دار پلان سے مکمل دستبرداری حاصل کرتا ہے تو تمام یونٹس کے مساوی نقد

ادائیگی کر کے پلان کو منسوخ کر دیا جائے گا۔

**دعویٰ (کلیم):**

کسی بھی ناگہانی کی صورت میں، آپ اپنے دعوے (کلیم) کی اطلاع سامبا بینک کی کسی بھی شاخ میں جا کر، ای ایف یو ہیڈ آفس آکریا ملک میں ای ایف یو کی کسی بھی شاخ میں جا کر دے سکتے ہیں۔ فوری عمل درآمد کے لئے آپ ہمارے کال سینٹر 111-338-111-021 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر موجود اطلاع فارم بھریں اور ہمیں [cod@efulife.com](mailto:cod@efulife.com) پر ای میل کر دیجئے۔ بعد ازاں، اگلے مراحل سے آگاہ کرنے کے لئے آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔

**عمومی طور پر پوچھے جانے والے سوالات:**

**قابل اطلاق عمر اور مدت کیا ہے؟**

یہ پلان تمام افراد کے لئے دستیاب ہے جن کی عمر اگلی سالگرہ پر 18 سے 65 سال کے درمیان ہو۔ پلان کی مدت تاحیات ہے۔

**کم از کم پریمیئم کی ضروریات کیا ہیں؟**

کم از کم سالانہ بنیادی پلان کا پریمیئم صرف 50,000 روپے سالانہ ہے۔

**(اخراجات) چارجز کیا ہیں؟**

- سرمایہ داری اخراجات (انوسٹمنٹ مینجمنٹ چارج): فنڈ مالیت کا 0.125 فیصد ماہانہ؛
- پڈ آفرا سپریڈ: کل باقاعدہ پریمیئم کا 5 فیصد؛

- اس پروڈکٹ کی بیمہ کاری ای ایف یولائف کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ سامبا بینک یا اس سے وابستہ کسی بھی ادارے کی طرف سے ضمانت شدہ یا بیمہ کی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی یہ سامبا بینک کی پروڈکٹ ہے۔ چنانچہ ای ایف یولائف بیمہ کاری کے تمام خطرے کے لئے ذمہ دار ہے۔
- سامبا بینک اپنے قابل قدر صارفین کے لئے اس پروڈکٹ کے لئے صرف بہ طور پروموٹو/تقسیم کار اور کارپوریٹ کلائنل ایجنٹ کام کر رہا ہے۔
- پالیسیوں سے متعلق تمام کلیمز، اخراجات اور ادائیگیوں کے انتظامات ای ایف یولائف کی مکمل اور مخصوص ذمہ داری ہونگے۔
- پلان میں ادا کئے گئے پریمیمز کی سرمایہ کاری فنڈز میں کی جاتی ہے۔
- فنڈ کی آئندہ کی کارکردگی کا لازمی دار و مدار پچھلی کارکردگی پر نہیں ہوتا۔ کسی قسم کا پیشگی اندازہ ضروری نہیں کہ مستقبل کی ترجمانی کرے یا فنڈز کی ممکنہ کارکردگی کو بیان کرے اور نہ ہی ای ایف یولائف اور نہ ہی سامبا بینک اس قسم کی کسی چیز کا ذمہ دار ہوگا۔
- فوائد کی ایک انفرادی وضاحت ہمارے کنسلٹنٹ کی طرف سے آپ کو فراہم کی جائے گی۔ ازراہ کرم مختلف شرائط و ضوابط کی تفصیلی وضاحت حاصل کرنے کے لئے پالیسی دستاویز کا مطالعہ کریں؛ آپ کی جانب سے پلان کی شرائط و ضوابط کی مکمل تفہیم مطلوب ہے۔
- سروس اخراجات اور ٹیکسیز کا اطلاق بینک کے شیڈول آف چارجز اور متعلقہ اتھارٹیوں کی طرف سے مقررہ ٹیکس قوانین کے مطابق ہوگا۔

## ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ

ای ایف یولائف پلاٹ نمبر 112، 8th اسٹریٹ، فیرون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔

فیکس: 3453-7519 (021) ای میل: [csd@efulife.com](mailto:csd@efulife.com)